


# ا ب دا قیدہ



ہندکو حرفاں دا چارٹ

ا	آ	ب	پ	ت
ٹ	ث	ج	چ	ح
خ	د	ڈ	ذ	ر
ڑ	ز	ژ	س	ش
ص	ض	ط	ظ	ع
غ	ف	ق	ک	گ
ل	م	ن	نظ	و
ہ	ھ	ء	ی	ے
ِ	ِ	ِ	ِ	ِ

## تعارف

افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر

ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ

کوئی بھی قوم اُس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی، جب تک اُس کا تعلیمی معیار بلند نہ ہو۔ اور کسی بھی قوم کا مستقبل اُس وقت تک مستحکم نہیں ہو سکتا، جب تک اُس کی نئی نسلیں علم و ہنر سیکھنے کی طرف توجہ نہ دیں۔ کسی بھی قوم کا علم و ہنر حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی زبان کو سیکھنا اور سیکھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہند کولینگوئج پراجیکٹ نے نئے نئے بچوں میں علم کی قدر و قیمت اور اپنی زبان کی اہمیت اُجاگر کرنے کے لیے ہند کوزبان میں کتابیں شائع کرنے کا جو منصوبہ شروع کیا تھا، اُس کا دوسرا ایڈیشن اس کتاب کی صورت میں شائع ہوا ہے۔ میں نے یہ کتاب بچوں میں نئی تخلیقی تحریک اُجاگر کرنے کے خیال سے ترتیب دی ہے۔

اس میں بچے حروف تہجی اور اُن سے شروع ہونے والی اشیاء کے نام بھی سیکھ سکیں گے۔ بچوں کی دلچسپی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کتاب میں بلیک اینڈ وائٹ تصاویر بھی شامل کی گئی ہیں۔ تاکہ بچے ان میں رنگ بھر کے لطف اندوز ہو سکیں۔ بطور لکھاری میرا یہ خیال ہے کہ جو بچے پُر اعتماد طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، وہ تصاویر کی مدد سے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہند کولینگوئج پراجیکٹ بچوں کی تعلیم پر اس لیے بھی زیادہ توجہ دے رہا ہے، کیوں کہ یہی بچے پڑھ لکھ کر ہماری قوم کا ایک روشن مستقبل بنیں گے۔

معزز اُساتذہ، ماہرین مضمون، والدین اور طلبہ و طالبات کی اس کتاب کے لیے قیمتی آراہ کا منظر

آپ کا مخلص ﴿راجہ تصور﴾


## شکر گزار ہونا

بچوں کی کسی بھی کتاب کو ان کے معیار کے مطابق ڈھالنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کتاب کو بچوں کے معیار کے مطابق شائع کرنے کے لیے مجھے بہت سی مشکلات کے سامنا کرنا پڑا۔ اس مشکل وقت میں میری ٹیم کے ساتھی اور خاص طور پر ڈائریکٹر مسٹر مارک رابنسن نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ جس کے لیے میں ان سب کے بہت شکر گزار ہوں۔

اور میں ان لوگوں کا بھی شکر یہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں میری مدد کی۔ ان سب کے علاوہ میں ہند کولینگوئج پراجیکٹ کا بھی بہت مشکور ہوں، جس نے مجھے ننھے منے پھولوں کے لیے کام کرنے کا موقع دیا۔ اور اس کتاب کو شائع کرنے میں میری مدد کی۔


﴿ راجہ تصور ﴾

## آنار




٢

آلوه



ب

بسته



پ


پیالہ






ت

تالا



ط

طَوَكْرِي



ث

ثمر




ج

جرباب




چ

چابی




ح

حق



خ

# خربانی



د


# دادی






ط

ط  
ب




ذ

ذریچہ



ر

# رکشہ




ط  
ر

# پہاڑ




ز

زَنَير




ژ

# ٹیلی وژن



س

سَیْب



ش


شہری





ص

صَوْفَه




ض

ضرب




ط

طَوَّطَا




ظ

ظالم




ع

عَيْنَا



غ

غُلِيل




ف

فوجی



ق


قینچی






ک

کیلا



گ

گملا




ل

لَوَطًا




م

مَالِطَا



ن

نلکا




نظ

پانٹریں



و

# وَرْدِي




# ہار






# ملائى




ی

آری




ے

تارے




أَنَدَا




آ

إِستری




إِ

أُسترا




أُ

أَوْغره



أَوْ

أُونْطَه



أُ

پُھل



پھ

چہتری



چھ

تہالی




تھ

جھیل




جھ

کھوتا




کھ



كَهوٲا

ك+ه+و+ٲ+ا



كُهٲا

ك+ه+ٲ+ا



كوٲا


ك+و+ٲ+ا

بہاری




بے

پہانڈے




پے

تہاگہ



تہ

سہ پیہ



سہ

شہری



شہ